

**Maulana Azad National Urdu University**  
**M.Sc. (Zoology) I Semester Examination, December 2023**

**MSZY103CCT : Cell Biology**

**پرچہ : سیل بیولوگی**

Time : 3 hrs

Marks : 70

**ہدایات:**

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ غالی جگہ پر کرنا/اختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ ( $10 \times 1 = 10$  Marks)
2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دوسوں (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ ( $5 \times 6 = 30$  Marks)
3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ ( $3 \times 10 = 30$  Marks)

**حصہ اول**

**سوال نمبر : 1**

- سیل کے جھلکی کا جزو (Cell Membrane Component) سیل کے اندر یا باہر نقل و حمل کے لیے ذمہ دار ہے۔ (i)
- آٹو فجی (Autophagy) کی وسیع وجوہات (Extensive Causes) ہیں۔ (ii)
- نقل و حمل (Transport) آنٹوں میں گلوکوز کے (Glucose in the Intestine) اخراج کی ایک مثال ہے۔ (iii)
- ہیستون (Histone) لنکرڈی این اے (Linker DNA) سے وابستہ ہے۔ (iv)
- Barr Body کی تعداد دو X کروموسوم (2-X Chromosome) والے فرد میں ہے۔ (v)
- وہ نکستہ کش (Construction) جو کروموسوم کو لمبے اور چھوٹے بازو (Long and Short Arm) میں تقسیم کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے؟ (vi)
- ذی این اے Duplication سیل سائکل کے مرحلے میں ہوتی ہے۔ (vii)
- اسپینڈل فاibrس (Spindle Fibers) Mitosis اور Meiosis کے دوران سے بنتے ہیں۔ (viii)
- جسم کے حصے کو متاثر کرتا ہے۔ Retinoblastoma (ix)
- جب ایک سیل خود سے رابطہ کرتا ہے تو اسے سیکننگ کہتے ہیں۔ (x)

## حصہ دوم

- (2) پروٹین انگلیز نر پر ایک نوٹ لکھیں۔  
پلازمابرین کے ساختی جزو کے بارے میں مختصر لکھیں۔  
(3) Heterochromatin اور Euchromatin کے درمیان فرق کریں۔  
(4) ایکس کروموسوم (X-Chromosome) کے غیرفعال (Inactivation) ہونے کا طریقہ کا مختصر آبیان کریں۔  
(5) ماٹوس کے مراحل (Different Phases of Mitosis) پر مختصر نوٹ لکھیں۔  
کمپلکس کو مختصر طور پر بیان کریں۔  
(6) Synaptonemal  
(7) JAK-STAT Pathway کی وضاحت کریں۔  
Growth Factors کے عوامل کو سنگنگ مالکیوں کے طور پر بیان کریں۔  
(8)  
(9)

## حصہ سوم

- سیل سائیکل کیا ہے؟ Check Points اور Regulation پر زور دیتے ہوئے ایک صاف خاکے کی مدد سے اس کو بیان کریں۔  
(10)  
جانداروں میں سیل ڈیتھ (Cell Death) کی کیا اہمیت ہے؟ Apoptosis اور Necrosis کے درمیان فرق کریں۔  
(11)  
سیل موصلات (Cell Communication) کی مختلف اقسام کے بارے میں لکھیں۔  
(12)  
ہستون ترمیم (Histone Modification) کی مختلف اقسام کیا ہیں؟ کرومین اور جین ریلویشن پر اس کے اثرات کی وضاحت کریں۔  
(13)  
جانوروں کے غلیے کے Cytoskeletal پروٹین کیا ہیں؟ Cytoskeleton کے افعال کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں۔  
(14)

☆☆☆